



# Noble Quran      القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعنی عربی

## سورة الدخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حٰمٰ

حٰمٰ

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

قسم ہے اس کتاب واضح کی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاكُمْ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَّةٍ كَيْفَ

ہم نے اس کو اتنا ایک برکت کی رات میں

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

ہم ہیں کہ (ڈر) سنے والے۔

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ

اسی (رات) میں جدا (فیصلہ) ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا۔

.1

.2

.3

.4

.5

أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا

حُكْمٌ هُوَ كَرِهٌ لِلْمُجْرِمِينَ

إِنَّا لَكَ مُرْسِلُينَ

هُمْ (هُوَ) هُنَّ (پیغمبر) صَاحِبِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

مَهْرٌ (رحمت) هے تیرے رب کی۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَهُوَ يَعْلَمُ سَنَاتِ جَانِتَاهُ

صَلَوة

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور جوان کے بیچ ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ

اگر تم کو یقین ہے۔

صَلَوة

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْكِمُ وَيُمْكِنُ

کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، جلاتا (زندہ کرتا) ہے اور مارتا ہے۔

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

.7

.8

.9

بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ

کوئی (ہرگز) نہیں! وہ دھوکے میں ہیں کھیتے۔

.10

فَإِذْ تَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

سو تراہ دیکھ جس دن کو لائے آسمان دھواں صرخ۔

.11

يَغْشَى النَّاسَ<sup>ص</sup>

جو گھیرے لوگوں کو۔

هَذَا عَذَابُ الْآئِمَّةِ

یہ ہے دکھ کی مار (دردناک عذاب)۔

.12

رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

اے رب کھول (ٹال) دے ہم سے یہ آفت، ہم یقین لاتے ہیں۔

.13

أَتَيْ لَهُمُ الَّذِي كُرِي وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

کہاں (موقع) ملے ان کو (اب) سمجھنا اور آچکا ان پاس رسول کھول سنانے والا۔

.14

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا أَمْعَلَمْ يَجْهُونُ

پھر اس سے پیچھے پھیری، اور کہنے لگے سکھایا ہے باو لا۔

.15

إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا

ہم کھولتے (ہٹلاتے) ہیں عذاب تھوڑے دنوں،

إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

تم پھرو ہی کرتے ہو۔

.16      يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ۔ ہم بد لہ لینے والے ہیں۔

.17      وَلَقَدْ فَتَّأَقْبَلُهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

.18      أَنَّ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ صَلَّى

کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے (یعنی بنی اسرائیل)

إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم پاس آیا ہوں بھیجا (ہوا) معتبر۔

.19      وَأَنَّ لَا تَعْلُو اَعْلَى اللَّهِ صَلَّى

اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ (سر کشی نہ کرو) اللہ کے مقابل۔

إِنِّي آتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

میں لاتا ہوں تم پاس ایک سند کھلی۔

.20      وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ

اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی اس سے کہ مجھ کو سنگسار کرو۔

.21

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيْ فَاعْتَزِلُونَ

اور اگر تم یقین نہیں کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔

.22

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لُّجُرِّمُونَ

پھر پکارا اپنے رب کو کہ یہ لوگ گنہگار ہیں۔

.23

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ

پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔

.24

وَأَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا

اور چھوڑ جادر یا کو تھم رہا۔

إِنَّمَا جُنْدُ مُغْرُقُونَ

البتہ وہ لشکر ڈو بنے والے ہیں۔

.25

كَمْ تَرْكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُمَيْوِينِ

کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے،

.26

وَزُرْمُودِيٍّ وَمَقَامِ كَرِيمٍ

اور کھیتیاں اور گھر خاصے؟

.27

وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ

اور آرام جس میں تھے باتیں بناتے؟

.28

ڪَذَلِكَ

اسی طرح (ہوا)۔

وَأُوْرَثْنَا هَا قَوْمًا آخَرِينَ

اور وہ سب ہاتھ لگایا، ہم نے ایک اور قوم کو،

فَمَا بَكَثُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔

.29

وَلَقَدْ بَعَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ

اور ہم نے نکالا بنی اسرائیل کو، وقت کی مار (عذاب) سے۔

.30

ج  
مِنْ فِرْعَوْنَ

جو فرعون سے تھی۔

إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ

بیشک وہ تھا چڑھ (سرکش ہو) رہا، حد سے بڑھنے والا۔

.31

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

اور ان (بنی اسرائیل) کو پسند کیا جان بوجھ کر، جہاں کے لوگوں سے۔

.32

وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ

اور دیں ان کو نشانیاں، جن میں مدد تھی صریح (کھلی)۔

.33

.34

إِنَّهُوَلَاءِ لَيَقُولُونَ

یہ لوگ کہتے ہیں۔

.35

إِنْ هُيِّ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ

اور کچھ نہیں، ہمارا یہی مرنا ہے پہلا، اور ہم کو پھر اٹھانا نہیں۔

.36

فَأَتُوا إِبَابَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بھال لے آؤ ہمارے باپ دادے، اگر تم سچے ہو۔

.37

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَّبَعُونَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اب یہ بہتر ہیں یا یقین کی قوم اور جوان سے پہلے تھے؟

أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا أُجْرِمِينَ

ہم نے ان کو کھپا (ہلاک کر) دیا (بیشک) وہ تھے گنہگار۔

.38

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَيْنَ

اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین، اور جوان کے بیچ ہے کھیل نہیں بنایا۔

.39

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ان کو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر، پر بہت لوگ سمجھتے۔

.40

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

تحقیق (بلاشبہ) فیصلے کا دن، وعدے ہے ان سب کا۔

.41      یوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ، اور نہ ان کو مد پہنچے۔

ج

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ

مگر جس پر مہر کرے اللہ۔

.42

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

بیشک وہی ہے زبردست رحم والا۔

.42

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقْوَمِ

مقرر (بیشک) درخت سیہند کا۔

.43

طَعَامُ الظَّالِمِ

کھانا ہے گناہ گار کا،

.44

كَالْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْبَطْوَنِ

جیسے پکھلاتا نہیں۔ کھولتا ہے پیٹوں میں۔

.45

كَغَلِي الْحَمِيمِ

جیسے پیٹوں میں کھولتا پانی،

.46

خُذُوا كُفَاعِتُلُوكَ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ

پکڑو اس کو اور دھکیل لے جاؤ یہ پوں بیچ دوزخ کے۔

.47

.48

لَمْ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

پھر ڈالوں کے سر پر جلتے پانی کا عذاب۔

.49

ذُقُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

یہ چکھ۔ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار۔

.50

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَزَّوْنَ

یہ وہی ہے جس میں تم دھوکار کھتے تھے۔

.51

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

بیشک ڈروالے (متقی)، گھر میں ہیں چین کے۔

.52

فِي جَنَّاتٍ وَغَيْوٌ

باغوں میں اور چشمتوں میں۔

.53

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ

پہنچتے ہیں پوشک ریشمی، پتلی اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے۔

.54

كَذَلِكَ

(وہاں) اسی طرح (کا حال ہو گا)۔

وَزَوَّجُنَاهُمْ بِجُوَرِ عَيْنٍ

اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں۔

يَدُ عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

.55

منگو اتے ہیں وہاں میوہ خاطر جمع سے۔

لَا يَدُ وَقْوَنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى

.56

نہ چکھیں گے وہاں مرتا، مگر جو پہلے مر چکے،

وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ

اور بچایا ان کو دوزخ کی مار (عذاب) سے۔

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ

.57

فضل سے تیرے رب کے۔

ذَلِكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِيمُ

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَا أُهْلِ لِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

.58

سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے تیری بولی (زبان) میں، شاید وہ یاد رکھیں۔

فَأَرْتَقِبُ إِلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

.59

اب تو راہ دیکھ، وہ بھی راہ تکتے ہیں۔

\*\*\*\*\*